



## Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) حضرت شاہ عبد القادر اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سورة الشعراء بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طسم

طاسین میم۔

1.

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

یہ آیتیں ہیں کھول سنائی کتاب کی (جو اپنا مدعا صاف بیان کرتی ہیں)۔

2.

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس پر کہ وہ یقین نہیں کرتے۔

3.

إِنْ نَشَأْ نُزِيلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

اگر ہم چاہیں اتا ر دیں ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں انکی گردنیں اسکے آگے نیچی (جھکی ہوئی)۔

4.

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ

اور نہیں پہنچتی ان پاس کوئی نصیحت رحمن سے نئی، جس سے منہ نہیں موڑتے۔

5.

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَاتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

.6

سو یہ جھٹلا چکے، اب پہنچے گی ان پر حقیقت اس بات کی جس پر ٹھٹھے ( مذاق ) کرتے تھے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

.7

کیا نہیں دیکھتے زمین کو، کتنی اگائی ہم نے اس میں ہر بھانت بھانت ( طرح طرح کی ) چیزیں خاصی؟

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

.8

اس میں البتہ نشان ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

.9

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

.10

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو، کہ جاؤ قوم گنہگار پاس۔

قَوْمَ فِرْعَوْنَ

.11

قوم فرعون پاس۔

أَلَا يَتَّقُونَ

کیا اُس کو ڈر نہیں۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

.12

بولا اے رب! میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلائیں۔

.13

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ

اور رُک جاتا ہے میرا جی، اور نہیں چلتی میری زبان، سو پیغام دے ہارون کو۔

.14

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

اور ان کو ہے مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں۔

.15

قَالَ كَلَّا

فرمایا کوئی (ہرگز ایسا) نہیں!

فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ

تم دونوں جاؤ لے کر ہماری نشانیاں، ہم ساتھ تمہارے سنتے ہیں۔

.16

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سو جاؤ فرعون پاس اور کہو، ہم پیغام لائے ہیں جہان کے صاحب کا۔

.17

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

کہ چلائے (روانہ کرے) ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔

.18

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

بولاً، ہم نے پالا نہیں تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں سے کئی برس۔

.19

وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

اور کر گیا تو اپنا وہ کام جو کر گیا، اور تو ہے ناشکر۔

قَالَ فَعَلَيْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ

.20

کہا، کیا تو ہے میں نے وہ اور میں تھا چوکے والا۔

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ

.21

پھر بھاگا میں تم سے، جب تمہارا ڈر دیکھا،

فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم، اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام پہنچانے والا۔

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ

.22

اور وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھے (اس لئے کہ) غلام کر لئے تونے بنی اسرائیل۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

.23

بولا فرعون، کیا معنی جہان کا صاحب؟

قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا<sup>ط</sup>

.24

کہا، صاحب آسمان وزمین کا، اور جو ان کے بیچ ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

اگر تم یقین کرو۔

قَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ

.25

بولا اپنے (ارد) گرد والوں سے، (کیا) تم نہیں سنتے ہو (جو یہ کہہ رہا ہے)؟

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

.26

کہا، صاحب تمہارا، اور صاحب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

.27

(فرعون) بولا (حاضرین سے) تمہارا پیغام والا، جو تمہاری طرف بھیجا ہے، سو باؤلا (دیوانہ) ہے۔

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا

.28

کہا (موسیٰ نے)، رب مشرق اور مغرب کا، اور جو ان کے بیچ ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

اگر تم بوجھ (سمجھ) رکھتے ہو۔

قَالَ لَيْنِ اتَّخَذَتْ إِهْلًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

.29

(فرعون) بولا، اگر تو نے ٹھہرا یا کوئی اور حاکم میرے سوا، تو مقرر (ضرور) ڈالوں گا تجھ کو قید میں۔

قَالَ أَوْلَوْ جُنَّتْ بِشِيءٍ مُّبِينٍ

.30

کہا (موسیٰ نے)، اور جو لایا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی (واضح)؟

قَالَ فَآتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

.31

(فرعون) بولا، تو وہ چیز لا اگر تو سچ کہتا ہے۔

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

.32

پھر ڈال دی (موسیٰ نے) اپنی لاٹھی، تو اسی وقت وہ ناگ ہو گئی صریح (سچ مٹی)۔

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاطِرِينَ

.33

اور اندر سے نکالا اپنا ہاتھ، تو اسی وقت چٹا (سفید) ہے دیکھنے والوں کے سامنے۔

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ

.34

(فرعون) بولا، اپنے (ارد) گرد کے سرداروں سے، یہ کوئی جادو گر ہے پڑھا (ماہر)۔

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ

.35

چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے۔

فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

سواب کیا حکم (مشورہ) دیتے ہو؟

قَالُوا الْمَرْجَةُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

.36

بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج شہروں میں نقیب۔

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ

.37

لے آئیں تیرے پاس جو بڑا جادو گر ہو پڑھا (ماہر)۔

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

.38

پھر اکٹھے کئے جادو گر، وعدہ پر ایک مقرر دن کے۔

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ

.39

اور کہہ دیا لوگوں کو، تم بھی اکٹھے ہوتے ہو۔

لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحْرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْعَالِيِينَ

.40

شاید ہم راہ پکڑیں جادو گروں کی اگر ہو جائیں وہی زبر (غالب)۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالُوا الْفِرْعَوْنَ أَتَيْنَ لَنَا لَاجِرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْعَالِيِينَ

.41

پھر جب آئے جادو گر، کہنے لگے فرعون سے بھلا کچھ ہمارا نیک (اجر) بھی ہے اگر ہو جائیں ہم زبر (غالب)۔

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

.42

(فرعون) بولا البتہ! تم اس وقت نزدیک والوں (مقربین) میں ہو گے۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَامَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ

.43

کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔

فَأَلْقُوا حِبَاهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا ابْعِزَّةَ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَالِيُونَ

.44

پھر ڈالیں انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں، اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی زبر (غالب) رہے۔

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

.45

پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا، پھر تبھی وہ نکلنے لگا جو سانگ (سوانگ) انہوں نے بنایا تھا۔

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ

.46

پھر اوندھے گرے جادو گر سجدہ میں۔

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

.47

بولے، ہم نے مانا جہان کے رب کو۔

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

جو رب موسیٰ اور ہارون کا۔

.48

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ<sup>ط</sup>

بولاتم نے اس کو مان لیا، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو۔

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ<sup>ج</sup>

مقرر (ضرور) وہ تمہارا بڑا ہے، جس نے تم کو سکھایا جادو۔ سواب معلوم کرو گے۔

لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلِّبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ

البتہ کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسرے پاؤں، اور سولی چڑھاؤں تم سب کو۔

.49

قَالُوا الْأَضْيِرُّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ<sup>ط</sup>

بولے کچھ ڈر نہیں، ہم کو اپنے رب کی طرف پھر (پلٹ) جانا ہے۔

.50

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

ہم غرض رکھتے ہیں کہ بخشے ہم کو رب ہمارا تقصیریں (خطائیں) ہماری،

اس واسطے کہ ہم ہوئے پہلے قبول کرنے والے۔

.51

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو، کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارے پیچھے لگیں گے۔

.52



فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

.53

پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں نقیب۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ

.54

(اور کہلا بھیجا) یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہیں تھوڑی سی۔

وَأَنَّهُمْ لَنَا الْعَائِظُونَ

.55

اور (واقع یہ ہے کہ) وہ مقرر ہم سے جی جلتے ہیں۔

وَأِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِمُونَ

.56

اور ہم سارے خطرہ رکھتے ہیں۔

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

.57

پھر نکالا ہم نے ان کو باغ چھوڑ کر اور چشمے۔

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ

.58

اور خزانے اور گھر خاصے۔

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

.59

اسی طرح! اور ہاتھ لگائیں یہ چیزیں بنی اسرائیل کو۔

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ

.60

پھر پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے۔

.61

فَلَمَّا تَرَأَى الْجُمُعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُّرَاكُونَ

پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں، کہنے لگے موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے۔

.62

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

کہا کوئی (ہرگز) نہیں! میرے ساتھ ہے میرا رب، مجھ کو راہ بتا دے گا۔

.63

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو، کہ مار اپنے عصا سے دریا کو۔

فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

پھر پھٹ گیا، تو ہو گئی ہر پھانک (ٹکڑا) جیسے بڑا پہاڑ۔

.64

وَأَزَلْفُنَا تَمَّ الْآخِرِينَ

اور پاس پہنچایا ہم نے اس جگہ دوسروں کو۔

.65

وَأَجْمَعْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ

اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو، اور جو لوگ تھے اسکے ساتھ سارے۔

.66

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ

پھر ڈبو دیا ان دوسروں کو۔

.67

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

اس چیز میں ایک نشانی ہے۔ اور نہیں وہ بہت لوگ ماننے والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

.68

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ

.69

اور سنان کو خبر ابراہیم کی۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ

.70

جب کہا اپنے باپ کو اور اسکی قوم کو، تم کیا پوجتے ہو؟

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عَاكِفِينَ

.71

وہ بولے، ہم پوجتے ہیں مورتوں کو، پھر سارے دن اس پاس لگے بیٹھے رہیں۔

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ

.72

کہا، کچھ سنتے ہیں تمہارا جب پکارتے ہو۔

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ

.73

یا بھلا کرتے ہیں تمہارا یا برا؟

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

.74

بولے نہیں! پر ہم نے پائے اپنے باپ دادے یہی کرتے۔

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

.75

کہا، بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہے ہو۔

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ

.76

تم اور تمہارے باپ دادے اگلے۔

فَأَنْتُمْ عَدُوِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

.77

سو وہ میرے غنیم (دشمن) ہیں، مگر جہان کا صاحب۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

.78

جس نے مجھ کو بنایا (پیدا کیا)، سو وہی مجھ کو سوجھ (رہنمائی) دیتا ہے۔

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

.79

اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

.80

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی چنگا (صحت یاب) کرتا ہے۔

وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ

.81

اور وہ جو مجھ کو مارے گا، پھر جلاوے (زندہ کرے) گا۔

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

.82

اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری تقصیر (خطائیں) دن انصاف کے۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

.83

اے رب! دے مجھ کو حکم، اور ملا مجھ کو نیکوں میں۔

.84

وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں (بعد والوں) میں۔

.85

وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے۔

.86

وَاعْفُرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

اور معاف کر میرے باپ کو، وہ تھارا بھولوں میں۔

.87

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن جی کر اٹھیں۔

.88

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

جس دن نہ کام آئے کوئی مال نہ بیٹے۔

.89

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

مگر جو کوئی آیا اللہ پاس لے کر دل چنگا (قلب سلیم)۔

.90

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

اور پاس لائے بہشت واسطے ڈروالوں کے۔

.91

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

اور نکالی دوزخ سامنے بے راہوں کے۔

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

اور کہئے ان کو کہاں ہیں جن کو پوجتے تھے۔

.92

مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ

اللہ کے سوا۔ کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے؟

.93

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ

پھر اوندھے ڈالے اس میں وہ اور سب بے راہ۔

.94

وَجُنُودٍ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ

اور لشکر ابلیس کے سارے۔

.95

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ

کہیں گے جب وہ وہاں جھگڑنے لگیں۔

.96

تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

قسم اللہ کی! ہم تھے صریح غلطی میں۔

.97

إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

جب تم کو برابر کرتے تھے جہان کے صاحب کے۔

.98

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ

اور ہم کو راہ سے بھلایا سوا ان گنہگاروں نے۔

.99

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ

.100

پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والا۔

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

.101

اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا۔

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

.102

سو کسی طرح ہم کو پھر (دوبارہ) جانا ہو، تو ہم ہوں ایمان والوں میں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةًٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

.103

اس بات میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

.104

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

.105

جھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

.106

جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

.107

میں تمہارے واسطے پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

.108

سوڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

.109

اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ نیک (اجر)۔ میرا نیک (اجر) ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

.110

سوڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنَّا وَأَتَّبَعَكَ الْأَمْذَلُونَ

.111

بولے کیا ہم تجھ کو مانیں؟ اور تیرے ساتھ ہو رہے ہیں کینے۔

قَالَ وَمَا عَلَّمِي مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

.112

کہا مجھ کو کیا جاننا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ

.113

اُن کا حساب پوچھنا میرے رب ہی کا کام ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ

.114

اور میں ہانکنے (دھکارنے) والا نہیں ایمان لانے والوں کو۔

إِنَّا إِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

.115

میں تو یہی ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر (واضح طور پر)۔



قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَه يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ

.116

بولے، اگر تونہ چھوڑے گا، اے نوح! تو سنگسار ہوگا۔

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّابُونَ

.117

کہا، اے رب! میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا۔

فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا

.118

سو فیصلہ کر میرے اُن کے بیچ، کسی طرح کا فیصلہ۔

وَوَجِّئِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور بچالے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے۔

فَأُنْجَيْنَاكَ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ

.119

پھر بچا دیا ہم نے اسکو اور جو اسکے ساتھ تھے اس لدی کشتی میں۔

ثُمَّ أَعْرَضْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ

.120

پھر ڈبو دیا پیچھے ان رہے ہوؤں کو۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

.121

البتہ اس بات میں نشانی ہے۔

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔

.122

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

.123

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ

جھٹلایا عادی نے پیغام لانے والوں کو۔

.124

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ

جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے کیا تم کو ڈر نہیں؟

.125

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

.126

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

.127

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ نیک (اجر)۔ میرا نیک (اجر) ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

.128

أَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رَائِحَةٍ أَيْتَةً تَعْبَثُونَ

کیا بناتے ہو ہر ٹیلے پر ایک نشان کھیلنے کو؟

.129

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ

اور بناتے ہو کارِ گیریاں (بڑی بڑی عمارتیں)، شاید تم ہمیشہ رہو گے۔

.130

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ

اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پہنچے مارتے ہو ظلم سے۔

.131

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سو ڈرو اللہ سے، اور میرا کہا مانو۔

.132

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ

اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچایا (عطا کیا) ہے جو کچھ جانتے ہو۔

.133

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنِينَ

پہنچائے (عطا فرمائے) تم کو چوپائے اور بیٹے۔

.134

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

اور باغ اور چشمے۔

.135

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے۔

.136

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ

بولے، ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ بنے نصیحت کرنے والا۔

.137

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ

اور کچھ نہیں یہ، عادت ہے اگلے لوگوں کی۔

وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينَ

اور ہم کو آفت نہیں آنے والی۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ<sup>ط</sup>

پھر اس کو جھٹلانے لگے تو ہم نے ان کو کھپا (ہلاک کر) دیا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

اس بات میں البتہ نشان ہے، اور وہ لوگ بہت نہیں ماننے والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ

جھٹلایا ثمود نے پیغام لانے والوں کو۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

جب کہا ان کو انکے بھائی صالح نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

میں تم پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

.145

اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ نیک (اجر)۔ میرا نیک (اجر) ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

أَتْتَرُ كُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ

.146

کیا چھوڑ دیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں نڈر؟

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

.147

باغوں اور چشموں میں۔

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ

.148

اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا گابھا (گودا) ملائم۔

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ

.149

اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر تکلف سے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ

.150

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

.151

اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا۔

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

.152

جو بگاڑ کرتے ہیں ملک میں اور سنوار نہیں کرتے۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ

.153

بولے، تجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

.154

تو یہی ایک آدمی ہے جیسے ہم۔ سولے آپکھ نشانی، اگر تو سچا ہے۔

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

.155

کہا، یہ اونٹنی ہے! اس کو پانی پینے کی ایک باری، اور تم کو باری ایک دن کی مقرر۔

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ

.156

اور نہ چھیڑو اس کو بُری طرح، پھر پکڑے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔

فَعَقَرُوهَا فَاصْبِرُوا إِنَّا دَرِينٌ

.157

پھر کاٹ (مار) ڈالی وہ اونٹنی، پھر کل کو رہ گئے پچھتاتے۔

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ<sup>ط</sup>

.158

پھر پکڑا ان کو عذاب نے،

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً<sup>ط</sup> وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

البتہ اس بات میں نشانی ہے، اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

.159

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔

.160

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ

جھٹلایا لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔

.161

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ

اور جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟

.162

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

میں تم کو پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

.163

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

.164

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ نیک (اجر)، میرا نیک (اجر) ہے اس جہان کے صاحب پر۔

.165

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

کیا دوڑتے ہو جہان کے مردوں پر؟

.166

وَتَذْمُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

اور چھوڑتے ہو جو تم کو بنا دیں تمہارے رب نے تمہاری جو روئیں (بیویاں)؟

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔

قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهَ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ

.167

بولے، اگر نہ چھوڑے گا تو، اے لوط! تو تو نکالا جائے گا۔

قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ

.168

کہا، میں تمہارے کام سے البتہ بیزار ہوں۔

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ

.169

اے رب! خلاص کر (نجات دے) مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ

.170

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سارے۔

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ

.171

مگر ایک بڑھیا رہی (بچھے) رہنے والوں میں۔

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

.172

پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان دوسروں کو۔

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ

.173

اور برسایا ان پر ایک برس، سو کیا بڑا برس، اور تھا ان ڈرائے ہوؤں کا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

.174

البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ اور بہت لوگ نہیں ماننے والے۔



.175

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

.176

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ

جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔

.177

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ

جب کہا ان کو شعیب نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟

.178

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

میں تم کو پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

.179

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سو ڈرو اللہ سے، اور میرا کہا مانو۔

.180

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ نیک (اجر)۔ میرا نیک (اجر) ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

.181

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

پورا بھر دو ماپ اور نہ ہو نقصان دینے والے۔

.182

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَنِ الْمُسْتَقِيمِ

اور تولو سیدھی ترازو۔

.183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

اور مت گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے۔

.184

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأُولِينَ

اور ڈرو اُس سے، جس نے بنایا (پیدا کیا) تم کو اور اگلی خلقت (پہلی مخلوق) کو۔

.185

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

بولے، تجھ کو کسی نے جادو کیا ہے۔

.186

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نُنْظِرُكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ

اور تو یہی ایک آدمی ہے جیسے ہم، اور ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا ہے۔

.187

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

سو دے مار ہم پر کوئی پٹرا (ٹکڑا) آسمان کا، اگر تو سچا ہے۔

.188

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

کہا، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

.189

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ

پھر اس کو جھٹلایا، پھر پکڑا ان کو آفت نے ساتبان والے دن کی،

إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ

بیشک وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً <sup>ط</sup> وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

.190

البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

.191

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

.192

اور یہ قرآن ہے اُتارا جہان کے صاحب کا۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

.193

لے اُترا ہے اس کو فرشتہ معبر۔

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

.194

تیرے دل پر، کہ تو ہو ڈر سنانے والا۔

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

.195

کھلی عربی زبان سے۔

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

.196

اور یہ لکھا ہے پہلوں کی کتابوں میں۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

.197

کیا ان کو نشانی نہیں ہو چکی؟

اس کی خبر رکھتے ہیں پڑھے لوگ بنی اسرائیل کے۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ

.198

اور اگر اتارتے ہم یہ کتاب کسی اوپری زبان والے (عجمی) پر۔

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ

.199

اور وہ اس کو پڑھتا، تو بھی اس کو یقین نہ لاتے۔

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ

.200

اسی طرح پیٹھا (ڈالا) ہم نے اس کو گنہگاروں کے دل میں۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

.201

وہ نہ مانیں گے اس کو، جب تک نہ دیکھیں گے دکھ کی مار۔

فَيَأْتِيهِمْ بَعْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

.202

پھر آئے ان پر اچانک اور ان کو خبر نہ ہو۔

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ

.203

پھر کہنے لگیں کچھ بھی ہم کو فرصت ملے۔

أَفْبَعَدَ ابْنَايَ سَتَّعْجُلُونَ

.204

کیا ہماری مار جلد مانتے ہیں؟

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ

.205

بھلا دیکھ تو! اگر برتنے دیا ہم نے ان کو کئی برس۔

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ

.206

پھر پہنچا ان پر جس کا ان سے وعدہ تھا۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ

.207

کیا کام آئے گا ان کے جتنا برتنے رہے۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ

.208

اور کوئی بستی نہیں کھپائی (ہلاک کی) ہم نے، جس کو نہ تھے ڈر سنانے والے۔

ذِكْرِي وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ

.209

یاد دلانے کو اور ہمارا کام نہیں ہے ظلم کرنا۔

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ

.210

اور اس کو نہیں لے اترے شیطان۔

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ

.211

اور ان سے بن نہ آئے، اور وہ کرنے سکیں۔

.212

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُوْلُونَ

اُن کو تو سننے کی جگہ سے کنارہ کر دیا ہے۔

.213

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ دوسرا احکم، پھر تو تم پڑے عذاب میں۔

.214

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

اور ڈر سنادے اپنے نزدیک ناتے والوں کو۔

.215

وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور اپنے بازو نیچے رکھ، اُن کے واسطے جو تیرے ساتھ ہوں ایمان والے۔

.216

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

پھر اگر تیری بے حکمی کریں، تو کہہ دے میں الگ ہو تمہارے کام سے۔

.217

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر۔

.218

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ

جو دیکھتا ہے تجھ کو، جب تُو اُٹھتا ہے۔

.219

وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

اور تیرا پھر نا نمازیوں میں۔

.220

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وہ جو ہے وہی ہے سنا جانتا۔

.221

هَلْ أَنْبَيْتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ

میں بتاؤں تم کو کس پر اترتے ہیں شیطان۔

.222

تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ

اترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر۔

.223

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ

لاڈالتے ہیں سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔

.224

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

اور شاعروں کی بات پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں۔

.225

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ

تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سرمارتے پھرتے ہیں۔

.226

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

اور یہ کہ وہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا

مگر جو یقین لائے، اور کیں نیکیاں، اور یاد کی اللہ کی بہت، اور بدلہ لیا اس پیچھے کہ اُن پر ظلم ہوا۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

اور اب معلوم کریں گے ظلم کرنے والے، کس کروٹ الٹتے ہیں۔

\*\*\*\*\*

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com